

10372 - اخبار#1740; کالموں م#1740; ن اولاد مسلم کو#1740; ورپ ک#1740;

دوست#1740; سے بچانا

سوال

جناب محترم شیخ صاحب : میں نے کچھ مدت سے ایک منصوبہ سوچ رکھا ہے ، جو کہ اخباری کالم نگاروں کے متعلق ہے ، جن کی میں نے تین قسم بنا رکھی ہیں :

ایک قسم تو منحرف افکار و سوچ کی مالک ہے ، اور دوسری قسم صرف شور غوغا کرنے والی ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں ، اور تیسری قسم عام ہے جو کہ اصلاً کسی بھی فکر سے متاثر نہیں ۔

اور اس منصوبے کا مقصد یہ ہے کہ جو کالم نگار راستے ہی سے بھٹک چکے ہیں انہیں شمار کیا جائے اور ان میں سے منحرف کی راہنمائی کی جائے ، ان میں سے کچھ سے میں نے خط و کتابت کی ہے جس کا نتیجہ بہت ہی اچھا اور خوش آئند رہا ، اور ان میں سے خاص طور پر عورتوں کی طرف سے حوصلہ افزا نتائج حاصل ہوئے ہیں ، جو کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ۔

میں آپ کی راہنمائی کی ضرورت محسوس کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ۔

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت اور مسلمانوں کو کفار اور فاسق اور گنہگاروں کے پنجوں سے بچا رہے ہیں ذیل میں ہم کچھ تجاویز پیش کرتے ہیں :

– انہیں اسلامی اصول اور دین کی طرف بلائیں اور یاد دہانی کرائیں ۔

– اللہ تعالیٰ اور روز قیامت کی یاد دہانی کرائیں ، فرمان باری تعالیٰ ہے : ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے (اس چیز) کی باز پرس کی جائے گی ۔

– انہیں ارتداد کے خطرات سے آگاہ کیا جائے اور بتایا جائے کہ میزان شریعت میں مرتد زندہ رہنے کا مستحق نہیں

اسلام سوال و جواب

نگران اعلیٰ:
شیخ محمد صالح المنجد

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافرمان ہے : (جو اپنے دین کو بدل دے اسے قتل کر دو)

- انہیں یورپ کی اندھی تقلید کی کمزوری اور کم عقلی سے آگاہ کیا جائے ، اور انہیں یورپ کے عیوب و نقائص اور برائیاں سروے وغیرہ کی روشنی میں بتائی جائیں ۔

- انہیں احسن اسلوب کی نعمت کی یاد دلائی جائے اور انہیں یہ بتایا جائے کہ اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور دین اسلام کے لیے استعمال کرنا چاہیئے جس طرح کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے کیا تھا ۔

- انہیں اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے محبت اور دوستی کرنے کے خطرات سے آگاہ کیا جائے اور اس بارہ میں قرآن و سنت میں جو بھی وعید آئی ہے اس کی خبر دی جائے ، اور اس بات کا ذکر کیا جائے کہ یورپی افکار اور اس کی اسلام مخالف مبادئات کی تیاری اور ترویج یہ ایسا جرم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے دوستی اور محبت ہے اور یہ چیز ملت اسلامیہ سے انسان کو خارج کر دیتی ہے جس کی بنا پر ارتداد کا وقوع ہوتا ہے ۔

واللہ اعلم .